

پیدائش کا اندراج



شرکت گاہ
ویمنز ریسورس سنٹر


AMPLIFYCHANGE

IDRC  CRDI

تحقیق و ترتیب: احمد رضا خان
نظر ثانی: حمیرا ممتاز شیخ
کمپوزنگ / ڈیزائننگ: بلال صدیق

پیدائش کا اندراج

پیدائش کا اندراج وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک بچے کی پیدائش سرکاری طور پر ریاست کی طرف سے ریکارڈ کی ہوئی دستاویز ہے۔ کسی بھی فرد کیلئے جو اس ملک کا شہری ہو اس دستاویز کو حاصل کرنا قانونی طور پر بہت ضروری ہے تاکہ وہ ریاست کی طرف سے مہیا کی گئی سہولیات جن میں صحت کی دیکھ بھال، سکول میں اندراج، نادرا کی طرف سے ب فارم کا حصول، پاسپورٹ، وراثت میں حصہ، قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، بینک اکاؤنٹ، ووٹ کا اندراج اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ سے مستفید ہو سکیں۔



معاهدہ برائے حقوق اطفال اقوام متحدہ کے مطابق بنام دفعہ نمبر 7

پیدائش کے فوراً بعد بچے، بچی کا اندراج کیا جائے گا اور اپنی پیدائش سے ہی نام رکھے جانے کا حق، قومیت کسی قوم سے تعلق رکھنے (ملک) کا حق اور جہاں تک ممکن ہو بچے کو اپنے والدین کو جاننے اور ان کی جانب سے خیال رکھے جانے کا حق رکھتا رکھتی ہے۔

ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دفعہ کو ملک میں لاگو کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے تاکہ بچے اور بچیوں کی پیدائش کے اندراج کو یقینی بنایا جاسکے۔

پیدائش کی رپورٹ کرنے کی ذمہ داری اور اس کا طریقہ کار



(i) گھر کارکن اعلیٰ اپنے گھر میں بچے کی پیدائش واقع ہونے کے 60 یوم کے اندر یونین کونسل ایلیج انمبر ہوڈ کونسل ایلیج میٹھی کے دفتر میں اندراج کروانے کا مابند ہوگا۔ رکن اعلیٰ کے علاوہ بچے کا کوئی قریبی رشتہ دار یا یونین کونسل کا کوئی مستقل رہائشی بھی پیدائش کے اندراج کیلئے درخواست دے سکتا ہے۔



(ii) پیدائش کے اندراج کی درخواست دینے کیلئے تصریح کردہ فارم "A" استعمال کیا جائے گا جو کہ دفتر یونین کونسل ایلیج انمبر ہوڈ کونسل ایلیج میٹھی، دفتر نکاح رجسٹرار، بنیادی مرکز صحت، زچہ بچہ سنٹر، ہیلتھ سنٹروں، ہسکاری ہسپتالوں اور سکولوں سے مفت دستیاب ہوگا۔ یونین کونسل ایلیج انمبر ہوڈ کونسل ایلیج میٹھی یہ فارم بلا معاوضہ مہیا کرے گی۔



(iii) درخواست دہندہ کیلئے لازم ہوگا کہ درخواست فارم پر کریں اور اندراج کے کوائف کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے دستخط اور نشان اگلوٹھا ثبت کرے اور پنا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر درج کرے۔ اگر درخواست دہندہ آن پڑھ ہوگا تو سیکریٹری یا نکاح رجسٹرار فارم خود پر کرے گا اور اسے پڑھ کر سنائے گا اور متعلقہ شخص سے نشان اگلوٹھا حاصل کرے گا۔





(iv) درخواست فارم وصول کرنے کے بعد سیکرٹری/اہلکار متعلقہ فارم C میں اس پیدائش کو درج کرے گا رجسٹریشن کے بعد سیکرٹری/اہلکار درخواست دہندہ کو رسید جاری کرے گا اور پھر ان اندراجات کو نادرا کے سافٹ ویئر کے ذریعے کمپیوٹر میں درج کرے گا اور یہ ڈیٹا بیس نادرا کے مقرر کردہ نمائندے کے ذریعے 10 یوم کے اندر نادرا تک پہنچایا جائے گا۔



(v) کسی یونین کونسل اوپن انجیر ہوڈ کونسل ایمپول کمیٹی کے رہائشی کے ہاں پیدائش اگر متعلقہ یونین کونسل ایمپول کمیٹی کے ضلع کی حدود کے باہر کسی زچہ بچہ سنٹریا ہسپتال یا کسی گھر میں واقع ہوگی تو ایسی صورت میں گھر کارکن اعلیٰ اس زچہ بچہ سنٹریا ہسپتال کا سرٹیفکیٹ یا گھر میں پیدائش کی صورت میں درخواست بر فارم "A" بمعہ احکام چیئر پر تصدیق شدہ بیان حلفی خود گواہان دو عدد چیئر مین اوپن انجیر ہوڈ کونسل ناظم ایڈمنسٹریٹو یونین کونسل ایمپول کمیٹی کو پیش کرے اور اگر ممکن ہو تو حفاظتی ٹیکے کے کارڈ کی فوٹو کاپی بھی پیش کرے گا۔ چیئر مین اوپن انجیر ہوڈ کونسل ناظم ایڈمنسٹریٹو اس درخواست پر اپنے طور پر انکوائری کرے گا۔ چیئر مین اوپن انجیر ہوڈ کونسل ناظم



ایڈمنسٹریٹو مطمئن ہو جائے تو اندراج کے تحریری احکامات جاری کرے گا اور سیکرٹری/اہل کار اس کو درج کرے گا۔

(vi) پیدائش کا اندراج بلا معاوضہ کیا جائے گا۔ اندراج پیدائش اور رسید جاری کرنے کیلئے کسی قسم کی فیس یا ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔

(vii) نقل یا سرٹیفکیٹ فیس اگر کوئی ہو تو اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری درخواست دہندہ کی ہوگی۔

(viii) سیکرٹری اہل کار دوران ماہ درج ہونے والی کل پیدائش واموات کی رپورٹ باقاعدگی سے ہر ماہ متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر کمیونٹی آرگنائزیشن چیف آفیسر کو تصدیق کردہ فارم F پر مہیا کرے گا۔

پیدائش کے تاخیری اندراج کا طریقہ کار

- (i) پیدائش کے 61 یوم یا سات سال تک ہونے والے اندراج کیلئے درج ذیل دستاویزات متعلقہ چیئر مین / ایچ این ایمر ہوڈ کونسل ناظم / ایڈمنسٹریٹر / یونین کونسل / میونسپل کمیٹی کو پیش کرے گا۔ اندراج میں تاخیری وجہ بھی بیان کرے گا۔
- (a) درخواست دہندہ اندراج کیلئے درخواست پر فارم-A جمع کروائے گا۔
- (b) اشخاص پر تصدیق شدہ بیان حلفی خود گواہان دو عدد
- (c) ہسپتال کا جاری کردہ پیدائش سرٹیفکیٹ یا سکول کا سرٹیفکیٹ یا حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ جس پر تاریخ پیدائش درج ہو وہی علاقہ کی صورت میں نمبر دار / کونسلر سے تصدیق شدہ درخواست
- (ii) درخواست موصول ہونے پر چیئر مین / ایڈمنسٹریٹر متعلقہ سیکرٹری / اہل کار کو ریکارڈ پیدائش کی رپورٹ پیش کرنے کو کہے گا کہ وہ رجسٹر میں پہلے سے یہ اندراج نہ ہونے کی تصدیق کرے۔
- (iii) اس تصدیق کے بعد چیئر مین / ایڈمنسٹریٹر اس درخواست پر اپنے طور پر انکوائری کرے گا۔ اور سات یوم کے اندر فیصلہ کرے گا۔ سات سال سے کم تاخیر کی صورت میں مندرجہ بالا دستاویزی ثبوت سامنے آنے پر چیئر مین یا ایڈمنسٹریٹر مطمئن ہو جائے تو اندراج کے تحریری احکامات جاری کرے گا۔
- (iv) سات سال سے زائد تاخیر کی صورت میں چیئر مین / ایچ این ایمر ہوڈ کونسل ناظم یا ایڈمنسٹریٹر تحریری طور پر متعلقہ اسٹنٹ کمشنر سے رہائشی تصدیق کیلئے لکھے گا۔ رہائش کی تصدیق ہونے کے بعد اسٹنٹ کمشنر یہ درخواست عمر کے تعین کیلئے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو بھیجے گا۔ اور متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ٹیسٹوں اور کلینکی طریقے سے عمر کا تعین کرے گا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ موصول ہونے پر چیئر مین / ایڈمنسٹریٹر اندراج کرنے کا تحریری حکم سیکرٹری / اہلکار کو دے گا۔ جس پر سیکرٹری / اہلکار اس کا اندراج رجسٹر پر کرنے کے بعد نادرا کمپیوٹر سافٹ ویئر میں درج کرے گا۔
- (v) لیٹ اندراج کیلئے تمام تر قانونی ضوابط پورے کرنے ہوں گے۔ عدم تعمیل کی صورت میں متعلقہ سیکرٹری / یونین کونسل / اہلکار میونسپل کمیٹی ذمہ دار ہوں گے۔

- (vi) اوستہ محمد ڈسٹرکٹ جعفر آباد میں لیٹ اندراج کی صورت میں اسٹنٹ کمشنر سے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں پیش آتی
- (vii) سوات اور اوستہ محمد میں ب فارم ہوانے کیلئے برتھر رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔

نوٹ:-
 برتھر رجسٹریشن، نکاح رجسٹریشن اور اموات کا اندراج کیلئے آپ اپنے علاقے کی یونین کونسل ایچ انہر ہوڈ کونسل کے یونین سیکرٹری سے مکمل معلومات اور طریقہ کار معلوم کر سکتے ہیں اور یونین کونسل سیکرٹری کے حوالے سے آپ اپنی شکایات اپنے علاقے کے یونین کونسل چیئرمین ایچ انہر ہوڈ کونسل ناظم سے بھی کر سکتے ہیں۔

پیدائش کے اندراج کا شیڈول:

نمبر شمار	نوعیت	مدت	ذمہ داری	درکار وقت
1	نارل اندراج	60 یوم	سیکرٹری یونین / اہلکار میونسپل کمیٹی	3 یوم
2	لیٹ اندراج	61 یوم تا 7 سال	چیئرمین ایڈمنسٹریٹو یونین کونسل / میونسپل کمیٹی ایچ انہر ہوڈ کونسل	7 یوم
3	بعد از معیاد اندراج	7 سال سے زائد	متعلقہ اسٹنٹ کمشنر برائے تصدیق رہائش اور متعلقہ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال برائے تعیین عمر	20 یوم

پیدائش کے اندراج کیلئے ضروری کاغذات

☆ درخواست دہندہ کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی

☆ والدین کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی

☆ ہسپتال کی پیدائشی سند کی کاپی (اگر پیدائش ہسپتال کی ہو)



حوالہ جات

http://nation.com.pk/digital_images/large/2015-06-09/affab-bahadur-to-be-hanged-early-wednesday-1433865861-3706.jpg

<http://sekho.com.pk/wp-content/uploads/2014/12/NADRA-B-Form-Download-Online-Required-Documents-Procedure.png>

<http://www.lawsofpakistan.com/get-birth-certificate-punjab-pakistan-urdu/>

<https://shariaunveiled.files.wordpress.com/2015/08/christian-girl-in-pakistan-2-resized.jpg?w=627&h=470>

<https://i.ytimg.com/vi/Wzifk1rF0fk/hqdefault.jpg>

[A Position Paper "Importance of Birth registration" Hooria Hayat Khan, Shabana wahid Khan, Shirkat Gah 2013](#)


<http://dailytimes.com.pk/opinion/22-Oct-2014/the-importance-of-birth-registration>

<https://tribune.com.pk/story/1366314/unregistered-children/>

https://www.google.com.pk/search?q=Children+pakistani+passport+images&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS1MC4wJzUAhVHt48KHTIhAK4Q_AUIBigB&biw=1366&bih=657#imgrc=uq3ThuStbtLiVM:

https://www.google.com.pk/search?q=Children+pakistani+passport+images&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS1MC4wJzUAhVHt48KHTIhAK4Q_AUIBigB&biw=1366&bih=657#tbm=isch&q=Union+council+images&imgrc=R4uD3kWfLC-s5M:

<https://www.slideshare.net/unicefceecis/crc-urdu-version>



نیشنل کمیشن برائے
مقامی ریفرنس سنٹر

